



## سوال

(275) مرغی 'بانگ' دے تو اسے ذبح کرنا ضروری ہے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اگر مرغی اذان (بانگ) دینا شروع کر دے تو کیا اسے ذبح کر لینا ضروری ہے؟ بعض لوگ اسے منحوس خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں: اگر اسے ذبح نہ کیا جائے تو کوئی نہ کوئی آفت ضرور آ جاتی ہے!

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ایسی مرغی کو ذبح کرنا ضروری نہیں۔ یہ لوگوں کے توہمات ہیں کہ اگر اس مرغی کو ذبح نہ کیا جائے تو اس گھر میں کوئی نہ کوئی آفت ضرور آ جاتی ہے جبکہ یہ مشاہداتی طور پر بھی غلط ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی مرغیاں ذبح نہیں کی جاتیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی آفت وغیرہ نہیں آتی۔

اس کے 'بانگ' دینے کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض چیزیں اگر خلافت معمول ظہور پذیر ہو جائیں تو کوئی نحوست کی بات نہیں ہوتی مثلاً اگر کسی عورت کو داڑھی آ جائے تو کیا ایسی عورت کو منحوس سمجھنا چاہئے؟ اسی طرح بعض مردوں کو ساری زندگی داڑھی آتی ہی نہیں تو کیا ایسے مردوں کو منحوس جان کر گھر سے نکال دینا چاہئے؟ روزمرہ زندگی میں اس طرح کے عجوبے منظر عام پر آتے رہتے ہیں لیکن کبھی کسی نے انہیں منحوس قرار نہیں دیا۔ آخر پجاری مرغی ہی منحوس کیوں؟

لوگوں کی بھی عجیب عجیب توہمات ہیں جو کسی کے ذہن میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔

نوٹ: مرغ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے فضل مانگو کیونکہ مرغ نے فرشتہ دیکھا ہے۔ (البوداؤد، ح: 5102)

یعنی مرغ کی اذان سن کر اللهم انی استنک من فضلك جیسے کلمات کہیں۔

اسی طرح دوسری حدیث میں ہے: ”مرغ کو گالی نہ دو، وہ تو نماز کے لیے جگاتا ہے۔“ (ایضاً، ح: 5102)

سبحان اللہ! مرغ کا اذان دینا احادیث میں تو گویا اسے رحمت کہا گیا ہے لیکن ہمارے ہاں کے جلاء اسے نحوست کہتے ہیں۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات  
محدث فتویٰ  
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

## فتاویٰ افکار اسلامی

اصلاح عقائد و اعمال اور رسومات، صفحہ: 573

محدث فتویٰ